

الوفیات

انسوس ہے گذشتہ ماہ جون کی ۲۲ تاریخ کو پروفیسر محمد حبیب نے ۷۲ برس کی عمر میں علی گڑھ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ موصوف ہماری پرانی نسل کے اُن محدودے چند اکابر علم و ادب میں سے تھے جن کے زورِ قلم و وسعتِ مطالعہ اور مجتہدانہ فکر و نظر نے یورپ اور امریکہ کے علماء اور فضلا کو بھی متاثر کیا تھا۔ وہ جتنے بڑے اسکالر تھے بحیثیت انسان کے بھی اتنے ہی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ طلبہ کی تعلیمی۔ علمی۔ مالی غرض کہ ہر قسم کی اور ہر وقت خدمت ان کا دین و ایمان تھا طبیعت بالکل درویشیانہ پائی تھی۔ نام و نمود۔ اور دکھانے کا نام و نشان نہ تھا۔ نہایت غلیظ۔ لیسار متواضع انسان تھے۔ ان کے بعض افکار و آراء سے کسی کو کتنا ہی اختلاف ہو اور سہیں بھی تھا لیکن ان کی شرافت۔ انسانیت دوستی اور جذبہ خدمتِ خلق ہر شک اور شبہ سے جند تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے ان کی معصرت فرمائے۔ آمین۔ مرحوم کے علمی کارناموں پر برہان میں ایک مستقل مقالہ عنقریب شائع ہوگا۔

پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں مولانا سید محمود صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا بڑے عالم اور متقی و پرہیزگار بزرگ تھے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر خور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم اور تقویٰ کے ساتھ کاروباری کچھ بوجھ کے باعث دولت و غنوت بھی ایسی وافر عطا فرمائی تھی کہ اس حیثیت سے بھی سعودیہ عرب میں ان کی شخصیت ممتاز اور نمایاں تھی۔ وہ طبعاً نہایت مخیر۔ فیاض اور کشادہ دست تھے۔ ہر کار خیر میں پیش پیش رہتے تھے۔ بیک کے علاوہ حکومت پر بھی ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ متعدد تعلیمی اور صنعتی ادارے ان کی یادگار ہیں

اللہ تعالیٰ آن مرحوم کو جنت الفردوس میں مقامِ جلیل عطا فرمائے۔ آمین